

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 وَذَرْنَا الْفِرْنَانَ الَّذِیْ هُوَ مِنْ حِجَّتِ الْمُؤْمِنِیْنَ

قرآن پاک کی معنوی تحریف اور فرقہ وادیت کی نحوست سے محفوظ اُردو ترجمہ



عربی لغت کے عین مطابق بیک وقت لفظی اور باحاورہ آسان ترین اُردو ترجمہ

ترجمہ
 پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ

ضیاء المشرق پبلیکیشنز
 لاہور - کراچی
 پاکستان

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلِئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْبَشَرَةَ وَحَشَرْنَا

اور اگر ہم اتارتے ان کی طرف فرشتے اور باتیں کرنے لگتے ان سے مردے (قبروں سے اٹھ کر) اور ہم جمع کر دیتے

عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيَوْمِنَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَ

ہر چیز کو ان کے روبرو تب بھی وہ ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ چاہتا اللہ تعالیٰ

لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ۝۱۱۱ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا

لیکن اکثر ان میں سے (بالکل) جاہل ہیں - اور اسی طرح بنادیتے ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن

شَيْطَانٍ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ

(یعنی) سرش انسان اور جن جو چپکے چپکے سکھاتے تھے ایک دوسرے کو خوش نما

الْقَوْلِ غُرُورًا وَكُوشَاءَ رَبِّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝۱۱۲

باتیں (لوگوں کو) دھوکہ دینے کے لئے، اور اگر چاہتا آپ کا رب تو وہ یہ نہ کرتے سو چھوڑ دیجئے انہیں اور جو وہ بہتان باندھتے ہیں۔

وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ

اور (چھوڑیے) تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان کے دل جو نہیں ایمان لائے آخرت پر اور تاکہ پسند کریں اسے

وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُونَ ۝۱۱۳ أَفَعَيَّرَ اللَّهُ أَبْتِغَىٰ حَكْمًا وَهُوَ

اور کرتے رہیں جو گناہ وہ اب کر رہے ہیں۔ (آپ ان سے پوچھئے) کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی اور منصف حالانکہ وہی ہے

الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ اتَّيَهُمُ الْكِتَابُ

جس نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاب مفصل، اور جن کو ہم نے دی ہے کتاب وہ (اچھی طرح)

يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

جاننے ہیں کہ یہ (قرآن) اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تو (اے سننے والے!) ہرگز نہ ہو جانا

السَّاطِرِينَ ۝۱۱۴ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ

شک کرنے والوں سے - اور مکمل ہو گئی آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل سے نہیں کوئی بدلنے والا

لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۱۱۵ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي

اس کی باتوں کا، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا، جاننے والا - اور (اے سننے والے!) اگر تو اطاعت کرے اکثر لوگوں کی جو

الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ

زمین میں ہیں تو وہ تجھے بہکادیں گے اللہ کی راہ سے، وہ نہیں پیروی کرتے سوائے گمان کے

وَأَنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۱۱۶﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ

اور نہیں ہیں وہ مگر محض تخمینے لگاتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون بہکتا ہے

سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۱۷﴾ فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ

اس کی راہ سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ تو کھاؤ اس میں سے لیا گیا ہے نام خدا

عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۸﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَاكُلُوا مِمَّا

جس پر اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو۔ اور کیا ہوا تمہیں کہ نہیں کھاتے ہو تم اس جانور کو

ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا

لیا گیا ہے اللہ کا نام جس پر حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مفصل بیان کر دیا ہے تمہارے لئے جو اس نے حرام کیا تم پر مگر وہ چیز

اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيَضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کی طرف، اور بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشوں سے بے علمی کے باعث،

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿۱۱۹﴾ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَ

بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور ترک کر دو ظاہری گناہ کو اور

بَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا

چھپے ہوئے کو بے شک وہ لوگ جو کما تے ہیں گناہ (تو) جلدی ہی سزا دی جائے گی انہیں (اس گناہ کی) جس کا وہ

يَقْتَرُونَ ﴿۱۲۰﴾ وَلَا تَاكُلُوا مِمَّا يَدُّرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ

ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اور مت کھاؤ اس جانور سے کہ نہیں لیا گیا اللہ کا نام اس پر اور اس کا کھانا

لَفَسَقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أُولِيهِمْ لِيُجَادُواكُمْ

نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں میں (اعتراضات) تاکہ وہ تم سے جھگڑیں،

وَأَنَّ أَطْعَمُوا هُمْ إِنَّكُمْ لَشُرُكُونَ ﴿۱۲۱﴾ أَوْ مَنْ كَانَ مِثْلًا

اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ کیا وہ جو (پہلے) مردہ تھا

فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ

پھر زندہ کیا ہم نے اسے اور بنا دیا اس کے لئے نور چلتا ہے جس کے اجالے میں لوگوں کے درمیان وہ اس جیسا

مِثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ

ہوسکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو نہیں نکلنے والا ان سے، یونہی آراستہ کر دیئے گئے کافروں کے لئے

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۲﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا

وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے - اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر بستی میں اس کے بڑے لوگوں کو وہاں کے

مُجْرِمِينَ هَلْ يَسْكُرُونَ فِيهَا وَمَا يَكْفُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا

مجرم تاکہ وہ مکر و فریب کیا کریں اس میں ، اور نہیں فریب دیتے مگر اپنے آپ کو اور وہ (اس بات کو) نہیں

يَشْعُرُونَ ﴿۱۲۳﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ

بجھتے - اور جب آئے ان کے پاس کوئی نشانی کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی

مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ

ویسا ہی نہ دیا جائے جیسے دیا گیا اللہ کے رسولوں کو ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے (اس دل کو) جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کو ،

سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ

عقرب پینچنے کی جنہوں نے جرم کئے ذلت اللہ کے ہاں اور عذاب سخت

بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۱۲۴﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ

بوجہ ان مکروں کے جو وہ کیا کرتے تھے - اور جس (خوش نصیب کے) لئے ارادہ فرماتا ہے اللہ کہ ہدایت دے اسے تو کشادہ کر دیتا ہے اس کا سینہ

لِلْإِسْلَامِ ۗ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا

اسلام کے لئے ، اور جس (بد نصیب) کے لئے ارادہ فرماتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے تو بنا دیتا ہے اس کے سینہ کو تنگ ، بہت تنگ ،

كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۗ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ

گو یا وہ زبردستی چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف ، اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ ناپاکی ان پر

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۲۵﴾ وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ

جو ایمان نہیں لاتے - اور یہ ہے راستہ آپ کے رب کا (بالکل) سیدھا ، ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں دلیلیں

لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۲۶﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا

ان لوگوں کے لئے جو نصیحت قبول کرتے ہیں - ان کے لئے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں اور وہی ان کا دوست ہے بسبب

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۷﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ۗ لِيَعْشَرَ الْجِنَّ قَد

ان نیک اعمال کے جو وہ کیا کرتے تھے - اور جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو ، (اور فرمائے گا) اے جنوں کے

اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيُوهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا

گروہ! بہت گمراہ کیا تم نے انسانوں کو ، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے اے ہمارے رب!

اسْتَمْتَعُ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتُمْ لَنَا ط

فائدہ اٹھایا ہم نے ایک دوسرے سے اور پہنچ گئے ہم اپنی اس میعاد کو جو تو نے ہمارے لئے مقرر کی تھی،

قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خُلْدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط إِنَّ رَبَّكَ

اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانا ہے ہمیشہ رہو گے اس میں مگر جسے اللہ تعالیٰ (نجات دینا) چاہے، بے شک آپ کا رب

حَكِيمٌ عَلَيْهِ ۱۲۸ ۱۲۸ وَكَذَلِكَ نُورِي بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا

بڑا داناسب کچھ جاننے والا ہے۔ اور یونہی ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر بوجہ ان (کرتوتوں)

يَكْسِبُونَ ۱۲۹ ۱۲۹ يَعْشُرَ اَلْحِنِّ وَالْاَلْسِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُلٌ مِّنْكُمْ

کے جو وہ کرتے رہتے تھے۔ اے گروہ جنوں اور انسانوں کے! کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے

يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ اَلَّتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا ط قَالُوا

ساتے تھے تمہیں ہماری آیتیں اور ڈراتے تھے تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے، کہیں گے

شَرِهْدَنَا عَلٰى اَنفُسِنَا وَعَدَّتْهُمْ اَلْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَرِهْدُوْا عَلٰى

ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف اور دھوکہ میں مبتلا کیا تھا انہیں دنیوی زندگی نے اور گواہی دیں گے اپنے

اَنفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوا كٰفِرِيْنَ ۱۳۰ ۱۳۰ ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكًا

خلاف کہ وہ کفر کرتے رہے تھے۔ یہ اس لئے کہ نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا

اَلْقَرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ۱۳۱ ۱۳۱ وَّلِكُلِّ دَرَجٰتٍ مِّمَّا عَمِلُوْا ط

بستیوں کو ظلم سے اس حال میں کہ ان کے باشندے بے خبر ہوں۔ اور ہر ایک کے لئے درجے ہیں ان کے عمل کے مطابق،

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۱۳۲ ۱۳۲ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمٰةِ ط

اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور آپ کا پروردگار غنی ہے رحمت والا ہے

اِنْ يَّشَآءِ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَآءُ كَمَا

اگر چاہے تو لے جائے (تباہ کر دے) تمہیں اور تمہاری جگہ لے آئے تمہارے بعد جسے چاہے جیسے

اَنشَاكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ط اِنْ مَا تُوْعَدُوْنَ لَا يَتَّ

پیدا کیا تمہیں دوسری قوم کی اولاد سے۔ بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ضرور آنے والا ہے

وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۱۳۳ ۱۳۳ قُلْ يَقَوْمِ اَعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ

اور نہیں ہو تم (اللہ کو) عاجز کرنے والے۔ آپ فرمائیے: اے میری قوم! تم عمل کئے جاؤ اپنی جگہ پر میں

إِنِّي عَامِلٌ فَمَا لِي لَأَقْفَلَهُ الطَّالِمُونَ ۝۱۳۵

اپنا کام کرنے والا ہوں، تو تم جان لو گے کہ کس کے لئے ہوتا ہے اچھا انجام اس دنیا کے گھر کا،

وَلَا يَفْلَحُ الْظَالِمُونَ ۝۱۳۵

بے شک فلاح نہیں پاتے ظلم کرنے والے۔ اور انہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے لئے اس سے جو پیدا فرماتا ہے فصلوں

وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا

اور مویشیوں سے مقررہ حصہ اور کہتے ہیں: یہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے ان کے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کے لئے،

فَمَا كَانَ لَشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ

تو وہ (حصہ) جو ہو ان کے شریکوں کے لئے تو وہ نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، اور جو (حصہ) ہو اللہ تعالیٰ کے لئے تو وہ

يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝۱۳۶

پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کو، کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یونہی خوشنما بنا دیا ہے

لِكثِيرٍ مِّنَ الشُّرَكِيِّنَ قَتَلُ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُرِدُوهُمْ

بہت سے مشرکوں کے لئے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو ان کے شریکوں نے تاکہ ہلاک کر دیں انہیں

وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ

اور مشتبہ کر دیں ان پر ان کا دین، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ایسا نہ کرتے تو چھوڑ دیجئے انہیں

وَمَا يَفْتَرُونَ ۝۱۳۷

اور جو وہ بہتان باندھتے ہیں۔ اور بولے: یہ مویشی اور کھیتی رکی ہوئی ہے کوئی نہیں کھا سکتا انہیں

إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا

سوائے اس کے جسے ہم چاہیں (یہ بات) اپنے گمان سے (کہتے ہیں) اور بعض مویشی ہیں حرام ہیں جن کی پشتیں (سواری کے لئے) اور بعض مویشی ہیں کہ نہیں

يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا

ذکر کرتے نام خدا ان (کی ذبح) پر (یہ سب محض) افتراء ہے اللہ پر، عنقریب سزا دے گا انہیں جو وہ

يَفْتَرُونَ ۝۱۳۸

بہتان باندھا کرتے تھے۔ اور بولے: جو ان مویشیوں کے شکموں میں سے وہ نرا

لَذُنُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَرْوَاحِنَا وَإِن يَكُن مِّمَّتَهُ فَمِمْ فِيهِ

ہمارے مردوں کے لئے ہے اور حرام ہے ہماری پیوں پر، اور اگر وہ مرا ہوا (پیدا) ہو تو پھر وہ سب (مردوں) اس میں

شُرَكَاءٌ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ ۗ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۳۹﴾ قَدْ خَسِرَ

حصہ دار ہیں، اللہ جلدی بدلہ دے گا انہیں ان کے اس بیان کا، بے شک وہ حکمت والا : علم والا ہے - یقیناً نقصان اٹھایا

الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ

جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو حماقت سے بغیر جانے اور حرام کر دیا جو رزق دیا تھا انہیں

اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۗ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۴۰﴾ وَ

اللہ نے بہتان باندھ کر اللہ تعالیٰ پر، بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے - اور

هُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّتٍ مَّعْرُوشٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشٍ وَالنَّخْلَ

وہ وہی ہے جس نے پیدا کئے ہیں باغات کچھ چھپوں پر چڑھائے ہوئے اور کچھ بغیر اس کے اور کھجور

وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ

اور کھیتی الگ الگ ہیں کھانے کی چیزیں ان کی اور زیتون اور انار (جو شکل میں) ایک جیسے اور (ذائقہ میں)

مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ

مختلف، کھاؤ اس کے پھل سے جب وہ پھلدار ہو اور ادا کرو اس کا حق جس دن وہ کٹے

وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ السُّرْفِينَ ﴿۱۴۱﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً

اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو، اور (پیدا فرمائے) بعض مویشی بوجھ اٹھانے والے

وَفَرَسًا ۗ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ ۗ

اور بعض زمین پر لانا کر زرع کرنے کے لئے، کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی،

إِنَّ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿۱۴۲﴾ ثَلَاثِينَ أَرْوَاحًا مِنَ الضَّالِّينَ

بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، (پیدا فرمائے) آٹھ جوڑے، بھیڑ سے دو (زروادہ)

وَمِنَ الْمَعْرَاضِ ثَلَاثِينَ ۗ قُلْ ۗ الذَّاكِرِينَ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثِيَيْنِ

اور بکری سے دو (زروادہ)، آپ پوچھئے: کیا دونوں نر حرام کئے ہیں یا دونوں مادائیں

أَمَّا اسْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يَسْئُرُنِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ

یا جسے لئے ہوئے ہیں (اپنے اندر) دو مادوں کے رحم، بتاؤ مجھے علم کے ساتھ اگر ہو تم

صَادِقِينَ ﴿۱۴۳﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ

سچے، اور اونٹ سے دو (زروادہ) اور گائے سے دو (زروادہ)، آپ پوچھئے

ءَالذِّكْرَيْنِ حَرَّمَ اَمَّا الْاُنثَيَيْنِ اَمَّا اَشْتَمَلْتَ عَلَيْهِ اَرْحَامُ

کیا دونوں نر حرام کئے ہیں یا دونوں مادہ یا جسے لئے ہوئے ہیں (اپنے اندر) دو مادوں

الْاُنثَيَيْنِ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَصَّيْتُمْ اللّٰهَ بِهٰذَا فَمَنْ اَظْلَمُ

کے رحم، کیا تم تھے موجود جب وصیت کی تمہیں اللہ نے اس بات کی، تو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے

مَنْ اَفْتَرٰى عَلٰى اللّٰهِ كِذْبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ

جو بہتان باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اپنی جہالت سے، بے شک

اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۱۳۳ ع قُلْ لَا اَجِدُنِيْ مَآ اُوْحٰى

اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو ظالم ہے۔ آپ فرمائیے: میں نہیں پاتا اس (کتاب) میں جو وحی کی گئی ہے

اِلٰى مُحَمَّدًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مِيْنَةً اَوْ دَمًا

میری طرف کوئی چیز حرام کھانے والے پر جو کھاتا ہے اسے مگر یہ کہ مردار ہو یا (رگوں کا) بہتا ہوا

مَسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خَنزِيْرٍ فَاِنَّ رِجْسًا اَوْ فِسْقًا اٰهْلًا لِّغَيْرِ اللّٰهِ

خون یا سور کا گوشت کیونکہ وہ سخت گندہ ہے یا جو نافرمانی کا باعث ہو (یعنی) وہ جانور جس پر ذبح کے وقت بلند کیا جائے غیر خدا کا

بِهٖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رِبْكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۱۳۴

نام، پھر جو شخص لاچار ہو جائے نہ نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو (حاضر ورت سے) تو بیشک آپ کا رب بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔

وَعَلَى الدِّیْنِ هَادٍ وَّاَحْرَمٰنَا كُلِّ ذٰی ظُفْرٍ وَّمِنَ الْبَقَرٰ و

اور ان لوگوں پر جو یہودی بنے تھے ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور، اور گائے اور

الغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمْ اَوْ

بکری سے ہم نے حرام کی ان پر دونوں (گائے بکری) کی چربی مگر جو اٹھا رکھی ہو ان کی پشتوں یا

الْحَوٰیَا اَوْ مَا اَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذٰلِكَ جَزٰیئُهُمْ بِغَيْرِهِمْ ۱۳۵ وَاِنَّ

آنتوں نے یا جو ملی ہوئی ہو ہڈی کے ساتھ، یہ ہم نے سزا دی تھی انہیں بسبب ان کی سرشتی کے اور یقیناً ہم

لصّٰدِقُوْنَ ۱۳۶ فَاِنَّ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ

سچے ہیں۔ پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو آپ فرمائیے: تمہارا پروردگار کشادہ رحمت والا ہے،

وَلَا یُرَدُّ بِاَسْءُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۱۳۷ سَيَقُوْلُ الدِّیْنِ

اور نہیں ٹالا جاسکتا اس کا عذاب اس قوم سے جو جرائم پیشہ ہو۔ اب کہیں گے جنہوں نے

اشْرِكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ط

شرک کیا اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو ،

كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ط

ایسا ہی جھٹلایا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارا عذاب ، آپ فرمائیے

هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ط إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ

کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو نکالو اسے ہمارے لئے ، تم نہیں پیروی کرتے مگر نرے گمان کی

وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿۱۳۸﴾ قُلْ فَبِذَلِكَ الْحِجَّةِ الْبَالِغَةِ فُلُؤ

اور نہیں ہو تم مگر انگلیں مارتے ہو - آپ فرمائیے اللہ ہی کے لئے کامل دلیل ہے ، سو اگر

شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳۹﴾ قُلْ هَلُمْ شُهَدَاءُكُمْ الَّذِينَ

وہ چاہتا تو ہدایت فرماتا تم سب کو - آپ فرمائیے : لاؤ اپنے گواہ جو

يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَرِهْدُوا فَلَا شَهَدَاءَ لَهُمْ

گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے ، پھر اگر وہ (جھوٹی) گواہی دے بھی دیں تو آپ نہ گواہی دیجئے ان کے ساتھ ،

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

اور نہ تم پیروی کرنا ان کی خواہشوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور جو نہیں ایمان لاتے

بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَدْرِبُهُمْ يَعْذِبُونَ ﴿۱۴۰﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ

آخرت پر اور وہ اپنے رب کے ساتھ (دوسروں کو) برابر ٹھہراتے ہیں - آپ فرمائیے : آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو کچھ حرام کیا ہے

رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالَّذِينَ أَحْسَنُوا وَلَا

تمہارے رب نے تم پر (وہ یہ) کہ نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو ، اور نہ

تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ط حُنْ نَرْزُقْكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا

قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی (کے خوف) سے ، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور انہیں بھی ، اور مت نزدیک جاؤ

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي

بے حیائی کی باتوں کے جو ظاہر ہوں ان سے اور جو چھپی ہوئی ہوں ، اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے

حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ط ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۴۱﴾ وَ

حرام کر دیا ہے اللہ نے سوائے حق کے ، یہ ہیں وہ باتیں حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے جن کا تا کہ تم (حقیقت کو) سمجھو - اور

لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقہ سے جو بہت اچھا ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ

أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْفُلْ نَفْسًا

جائے ، اور پورا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ ، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی کو

إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ

مگر اس کی طاقت کے برابر ، اور جب کبھی بات کہو تو انصاف کی کہو اگرچہ ہو (معاملہ) رشتہ دار کا ، اور اللہ سے کئے ہوئے وعدہ کو

أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۵۲﴾ ۗ وَآتَ هَٰذَا

پورا کرو ، یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو ، اور بیشک یہ ہے

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ

میرا راستہ سیدھا سو اس کی پیروی کرو ، اور نہ پیروی کرو اور راستوں کی (ورنہ) وہ جدا کر دیں گے تمہیں

عَنْ سَبِيلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۵۳﴾ ۗ ثُمَّ آتَيْنَا

اللہ کے راستہ سے ، یہ ہیں وہ باتیں حکم دیا ہے تمہیں جن کا تاکہ تم متقی بن جاؤ - پھر عطا فرمائی ہم نے

مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ

موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب تاکہ پوری کر دیں نعمت ان پر جو نیک عمل کرتے ہیں اور تاکہ تفصیل ہو جائے ہر

شَيْءٍ ۗ وَهَدَىٰ ذُرِّيَّتَهُ لِعِبَادَتِهِمْ بِإِقْلَامٍ ۗ رَبُّهُمْ يَوْمَئِذٍ ۙ وَهَٰذَا

چیز کی اور (یہ کتاب) باعث ہدایت و رحمت ہے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے پر ایمان لائیں - اور یہ (قرآن)

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۵۴﴾ ۗ أَنْ

کتاب ہے ہم نے اتارا ہے اسے ، مبارک ہے سو پیروی کرو اس کی اور ڈرو (اللہ سے) تاکہ تم پر رحم کیا جائے (ہم نے اسے اتارا ہے) ، تاکہ

تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا

یہ نہ کہو کہ اتاری گئی تھی کتاب تو صرف دو گروہوں پر ہم سے پہلے اور ہم تو

عَنْ دَرَسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ ﴿۱۵۵﴾ ۗ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے ، یا یہ نہ کہو کہ اگر اتاری گئی ہوتی ہم پر کتاب

لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَدَىٰ وَ

تو ہوتے ہم زیادہ ہدایت پانے والے ان سے بے شک آگئی ہے تمہارے پاس روشن دلیل اپنے رب کی طرف سے اور سراسر ہدایت اور

رَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا

رحمت ، تو کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اور منہ پھیرا ان سے ،

سَجَزَى الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ الْيْتِنَا سَوْءَ الْعَذَابِ بِمَا

عنقریب ہم سزا دیں گے انہیں جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیتوں سے برے عذاب سے اس وجہ سے

كَانُوا يَصُدُّونَ ۝۱۵۷ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ

کہ وہ منہ پھیرا کرتے تھے - کس کی انتظار کر رہے ہیں بجز اس کے کہ آئیں ان کے پاس فرشتے یا

يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ

خود آئے آپ کا رب یا آئے کوئی نشانی آپ کے رب کی - (لیکن) جس روز آئے گی کوئی نشانی

رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمْتًا مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ

آپ کے رب کی تو نہ نفع دے گا کسی کو اس کا ایمان لانا جو نہیں ایمان لایا تھا اس سے پہلے یا نہ کی تھی

فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا ۝۱۵۸ قُلْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ مَنظُرُونَ ۝۱۵۸ إِنَّ الَّذِينَ

اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی ، آپ (انہیں) فرمائے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں - بے شک وہ جنہوں نے

فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ

تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور ہو گئے کئی گروہ (اے محبوب!) نہیں ہے آپ کا ان سے کوئی علاقہ ، ان کا معاملہ صرف

إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝۱۵۹ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ

اللہ ہی کے حوالے ہے پھر وہ بتائے گا انہیں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے - جو کوئی لائے گا ایک نیکی

فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا

تو اس کے لئے دس ہوں گی اس کی مانند ، اور جو کوئی کرے گا ایک برائی تو نہ بدلہ ملے گا اسے مگر اس (ایک برائی) کے برابر

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝۱۶۰ قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا - آپ فرمائے بے شک مجھے پہنچا دیا ہے میرے رب نے سیدھی راہ تک ،

دِينًا قِسْمًا مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝۱۶۱

یعنی دینِ حنک (جو) ملتِ ابراہیم ہے جو باطل سے ہٹ کر صرف حق کی طرف مائل تھے ، اور نہیں تھے وہ مشرکوں سے -

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱۶۲

آپ فرمائے: بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا (سب) اللہ کے لئے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا ،

لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۹۴﴾ قُلْ أَغْيَرُ

نہیں کوئی شریک اس کا ، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں - آپ فرمائیے کیا

اللَّهُ أَغْيَرُ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا

اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی اور رب، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا ، اور نہیں کماتا کوئی شخص (کوئی چیز) مگر

عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ

وہ اسی کے ذمہ ہوتی ہے، اور نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، پھر اپنے رب کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے تو

بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۱۹۵﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَةَ الْأَرْضِ

وہ بتائے گا تمہیں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے - اور وہی ہے جس نے بنایا تمہیں (اپنا) خلیفہ زمین میں

وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ

اور بلند کیا ہے تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں تا کہ آزمائے تمہیں اس چیز میں جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے،

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۹۶﴾

بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے -

سُورَةُ الْأَعْرَافِ ﴿۳۹﴾ مَكِّيَّةٌ ۖ ثَلَاثُونَ آيَةً

سورۃ اعراف کی ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے - اس کی ۲۰۶ آیتیں اور رکوع ۲۳ ہیں

الْقَصِّ ۗ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ

الف - لام - نون - صاد - یہ کتاب ہے نازل کی گئی ہے آپ کی طرف پس چاہئے کہ نہ ہو آپ کے سینہ میں کچھ تنگی

مِّنْهُ لَتُنذِرَنَّهُمْ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱﴾ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ

اس کی تبلیغ سے (یہ نازل کی گئی ہے) تاکہ آپ ڈرائیں اس سے اور یصحیح ہے مومنوں کے لئے - (لے لو گو!) پیروی کرو جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے

وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دُونَهُ أَوْلِيَاءُ قَلِيلًا قَاتِلُوا تَدَّكُرُونَ ﴿۲﴾ وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ

اور نہ پیروی کرو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کی، بہت ہی کم تم نصیحت قبول کرتے ہو - اور کتنی بستیاں تھیں

أَهْلَكْنَاهَا فَمَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴿۳﴾ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ

برباد کر دیا ہم نے انہیں پس آیا ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے - پس نہ تھی ان کی (سچی و) پکار جب

جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۴﴾ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ

آیا ان پر ہمارا عذاب بجز اس کے کہ انہوں نے کہا بے شک ہم ہی ظالم تھے - سو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے

أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلِنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۙ فَلَنَقْصُنَّ عَلَيْهِمْ بَعْلَهُمْ وَمَا

بھیجے گئے (رسول) جن کی طرف اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے ، پھر ہم ضرور بیان کریں گے (ان کے حالات) ان پر اپنے علم سے اور نہ

کُتَابًا بَيِّنًا ۙ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ مَنْ ثَقَلَتْ فَوَازِيئُهُ فَأُولَٰئِكَ

تھے ہم ان سے غائب - اور (اعمال کا) تو لانا اس دن برحق ہے ، پس جن کے بھاری ہوئے ترازو تو وہی لوگ

هُم الْمَفْذُحُونَ ۙ وَمَنْ خَفَّتْ فَوَازِيئُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا

کامیاب ہونے والے ہیں - اور جن کے ہلکے ہوئے ترازو تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا

أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۙ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ

اپنے آپ کو بوجہ اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ بے انصافی کیا کرتے تھے - اور یقیناً ہم نے ہی آباد کیا تمہیں زمین میں

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۙ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ

اور مہیا کر دیئے تمہارے لئے اس میں زندہ رہنے کے اسباب ، بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو - اور بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں

ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ۖ فَسَجَدُوا ۗ إِلَّا

پھر (خاص) شکل و صورت بنائی تمہاری پھر حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے

إِبْلِيسَ ۗ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۙ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدَ

ابلیس کے ، نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے - اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے روکا تجھے اس سے کہ تو سجدہ کرے

إِذْ أَمَرْتُكَ ۗ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ تَابِرٍ وَخَلَقْتَهُ

جب میں نے حکم دیا تجھے ، ابلیس نے کہا (کیونکہ) میں بہتر ہوں اس سے ، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور تو نے پیدا کیا اسے

مِنْ طِينٍ ۙ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ

کچھ سے - اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اتر جاؤ یہاں سے مناسب نہیں ہے تیرے لئے کہ تو غرور کرے

فِيهَا فَاخْرَجْكَ مِنْهَا ۙ قَالَ أَنُظِرْنِي إِلَى يَوْمِ

یہاں رہتے ہوئے پس نکل جا بے شک تو ذیلیوں میں سے ہے - بولا مہلت دے مجھے اس دن تک

يَبْعَثُونَ ۙ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۙ قَالَ فِيمَا أُغْوِيَنِي

جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے - اللہ نے فرمایا: بیشک تو مہلت دیئے ہوؤں میں سے ہے - کہنا گا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے (اپنی رحمت سے) ماہوں کر دیا

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۙ ثُمَّ لَا تَبُوءُ بَيْنَ

میں ضرور تاک میں بیٹھوں گا ان (گوگراہ کرنے) کیلئے تیرے سیدھے راستے پر پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس

۸

أَيْدِيَهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ

(بہکانے کے لئے) ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے،

وَلَا تَحُدُّ كَثْرَتُهُمْ شُكْرِيْنَ ﴿۱۷﴾ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا

اور تو نہ پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ فرمایا: نکل جا یہاں سے ذلیل (اور) رائدہ ہوا،

لَسَنْ يَتَّبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَلٌ جَهَنَّمِ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۸﴾ وَيَا آدَمُ

جس کسی نے پیروی کی تیری ان سے تو یقیناً میں بھروں گا جہنم کو تم سب سے۔ اور اے آدم!

اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا

رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ جہاں سے چاہو اور مت

تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۹﴾ فَوَسَّسَ لَهُمَا

نزدیک جانا اس (خاص) درخت کے ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے اپنا نقصان کرنے والوں سے۔ پھر وسوسہ ڈالا ان کے (دلوں میں)

الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وَّرَىٰ عَنْهُمَا مِنْ سَوَائِهِمَا وَ

شیطان نے تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لئے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں سے اور

قَالَ مَا نَهَىٰ رَبُّكَ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَا

(انہیں) کہا کہ نہیں منع کیا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لئے کہ کہیں نہ بن جاؤ تم دونوں

مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿۲۰﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا

فرشتے یا کہیں نہ ہو جاؤ ہمیشہ زندہ رہنے والوں سے۔ اور قسم اٹھائی ان کے سامنے کہ میں تم دونوں کا

لِسِنَ النَّاصِحِينَ ﴿۲۱﴾ فَذَلَّهُمَا بَغْرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ

خیر خواہ ہوں، پس شیطان نے نیچے گرا دیا ان کو دھوکہ سے، پھر جب دونوں نے چکھ لیا درخت سے

بَدَاتْ لَهُمَا سَوَائِهِمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذُرُقِ

تو ظاہر ہو گئیں ان پر ان کی شرم گاہیں اور چپٹانے لگ گئے اپنے (بدن) پر

الْجَنَّةِ ط وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ

جنت کے پتے، اور ندادی انہیں ان کے رب نے کیا نہیں منع کیا تھا میں نے تمہیں اس درخت سے

وَأَقُلُّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۲۲﴾ قَالَ رَبَّنَا

اور کیا نہ فرمایا تھا تمہیں کہ بلاشبہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کی کہ ہمارے پروردگار

ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر اور اگر نہ بخش فرمائے تو ہمارے لئے اور نہ رحم فرمائے ہم پر تو یقیناً ہم

مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۲۳﴾ قَالَ اٰهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَّ

نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے، اور

لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿۲۴﴾ قَالَ فِىْهَا

تمہارے لئے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ (نیز) فرمایا اسی زمین میں

تَحْيٰوْنَ وَّفِىْهَا مَمٰوٰتٌ وَّمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿۲۵﴾ يٰۤاٰدَمُ

تم زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم

قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِىْ سَوْاَتِكُمْ وَّرِيْشًا وَّلِبَاسٌ

بے شک اتارا ہم نے تم پر لباس جو ڈھانپتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو اور باعث زینت ہے، اور

التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ يَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۶﴾

پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔

يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكَ مِنْ

اے اولاد آدم! نہ فتنہ میں مبتلا کر دے تمہیں شیطان جیسے نکالا اس نے تمہارے ماں باپ کو

الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسًا لِّئَلَّا يَرٰكُمْ

جنت سے (اور) اتر وادیا ان سے ان کا لباس تاکہ دکھلا دے انہیں ان کے پردہ کی بجائیں، بے شک دیکھتے ہیں تمہیں

هُوَ وَّقَبِيْلٌ مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنِ

وہ اور اس کا کنبہ جہاں سے تم نہیں دیکھتے ہو انہیں، بلاشبہ ہم نے بنا دیا ہے شیطانوں کو

اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۲۷﴾ وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحْشٰةٌ قَالُوْا

دوست ان کا جو ایمان نہیں لاتے۔ اور جب کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام (تو) کہتے ہیں

وَجَدْنَا عَلَيْهِمۡاٰبَاءَنَا وَاَللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا

پایا ہم نے ایسا ہی کرتے ہوئے اپنے باپ دادا کو اور اللہ نے بھی ہمیں حکم دیا اس کا، آپ فرما دیجئے: بے شک اللہ حکم نہیں

يٰۤاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ اتَّقُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸﴾

دیتا بے حیائیوں کا، کیا ایسی بات لگاتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

آپ فرمائیے: حکم دیا ہے میرے رب نے عدل و انصاف کا۔ اور سیدھا کرو اپنے چہرے (قبلہ کی طرف) ہر نماز کے وقت

وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿۲۹﴾

اور عبادت کرو اس کی اس حال میں کہ تم خالص کرنے والے ہو اس کے لئے عبادت کو، جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا تھا تمہیں ویسے ہی تم لوگوں کے۔

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا

ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دے دی اور ایک گروہ ہے کہ مقرر ہو گئی ان پر گمراہی، انہوں نے بنا لیا

الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿۳۰﴾

شیطانوں کو (اپنا) دوست اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔

يَبْنِي أَدْمًا خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا

اے آدم کی اولاد! پہن لیا کرو اپنا لباس ہر نماز کے وقت اور کھاؤ اور پیو

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۳۱﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ

اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو۔ آپ فرمائیے: کس نے حرام کیا

اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادَتِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّبَا ۗ قُلْ هِيَ

اللہ کی زینت کو جو پیدا کی اس نے اپنے بندوں کے لئے اور (کس نے حرام کئے) لذیذ پاکیزہ کھانے؟ آپ فرمائیے: یہ چیزیں

لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ

ایمان والوں کے لئے ہیں اس دنیوی زندگی میں بھی (اور) صرف انہیں کے لئے ہیں قیامت کے روز، یونہی

نُقِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي

ہم مفصل بیان کرتے ہیں آیتوں کو ان لوگوں کے لئے جو (حقیقت کو) جانتے ہیں۔ آپ فرمائیے: بے شک حرام کر دیا ہے میرے رب نے

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَإِلَّا تَمَّ وَالْبَغْيِ بِغَيْرِ

سب بے حیائیوں کو جو ظاہر ہیں ان سے اور جو پوشیدہ ہیں اور (حرام کر دیا) گناہ کو اور سرکشی کو بغیر

الْحَقِّ ۚ وَإِنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَإِنْ

حق کے اور یہ کہ شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ جس کے لئے نہیں اتاری اللہ نے کوئی سند اور یہ کہ

تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ

تم کہو اللہ پر ایسی بات جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور ہر امت کے لئے ایک وقت مقرر ہے،

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ﴿۳۷﴾

سو جب آجائے ان کا مقررہ وقت تو نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں ایک لمحہ اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

يَبْنِي أَدَمًا يَا تَيْبِكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ

اے اولاد آدم! اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے جو بیان کریں تم پر

آیتیں فَمَنْ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

میری آیتیں تو جس نے تقویٰ اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی تو نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ

يَحْزَنُونَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ

غمگین ہوں گے۔ اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور غرور کیا ان سے وہ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۹﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ

دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے بہتان باندھا

عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ

اللہ پر جھوٹا یا جھٹلایا اس کی آیتوں کو، انہیں مل جائے گا ان کا حصہ جو ان کی قسمت میں

الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا آيِنًا مَا

لکھا ہے، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے جو قبض کریں گے ان کی رگوں کو تو ان سے کہیں گے کہاں ہیں وہ

كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا

جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، کہیں گے: وہ گم ہو گئے ہم سے اور گواہی دیں گے

عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۴۰﴾ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ

اپنے نفسوں پر کہ وہ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا

گزر چکی ہیں تم سے پہلے جنوں اور انسانوں سے (ان کے پاس) دوزخ میں (داخل ہو جاؤ)، جب

دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا دَارَ كُوفٍ فِيهَا جَمِيعًا

بھی داخل ہوگی کوئی امت وہ لعنت بھیجے گی دوسری امت پر، یہاں تک کہ جب جمع ہو جائیں گی اس میں سب امتیں۔

قَالَتْ أَخْرِبْهُمْ وَلَاوْلَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَاتِرْهُمْ عَذَابًا

تو کہے گی آخری امت پہلی امتوں کے متعلق: اے ہمارے رب! انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا پس دے ان کو دہشتناک عذاب

ضَعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضَعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾

اگ سے ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لئے دگنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے۔

وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لَا خُرْبَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ

اور کہیں گی پہلی امتیں پچھلی امتوں سے کہ نہیں ہے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۳۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا

پس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک جنہوں نے جھٹلایا

بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا

ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا ان سے نہ کھولے جائیں گے ان کے لئے آسمان کے دروازے اور نہ

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ

داخل ہوں گے جنت میں جب تک نہ داخل ہو اونٹ سوئی کے ناکہ میں ، اور اسی طرح

يُجْزَى السَّجْرَيْنِ ﴿۴۰﴾ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ

ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والوں کو۔ ان کے لئے دوزخ کا ہی بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر (اسی کا)

غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ يُجْزَى الظَّالِمِينَ ﴿۴۱﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

اڑھنا ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک

الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

عمل کئے (ہمارا قانون یہ ہے کہ) ہم تکلیف نہیں دیتے کسی کو مگر جتنی اس کی طاقت ہے ، وہ جنتی ہیں

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۴۲﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ

وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ہم نکال لیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ ہے

يُجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا

رواں ہوں گی ان کے پیچھے سے نہریں ، اور کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے راہ دکھائی ہمیں

لِهَذَا إِنَّا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ

اس بہشت کی۔ اور ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے اگر نہ ہدایت دیتا ہمیں اللہ تعالیٰ ، بے شک آئے

رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنَّ تِلْكَ الْجَنَّةُ أَوْرَثُكُمْ مَّا بَسَا

ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ ، اور ان (خوش نصیبوں) کو آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے وارث بنائے گئے ہو تم جس کے بوجہ

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا

ان عملوں کے جو تم کیا کرتے تھے۔ اور آواز دیں گے جنتی دوزخیوں کو بے شک ہم نے پایا

مَا وَعَدْنَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ ۚ

جو وعدہ فرمایا تھا ہمارے ساتھ ہمارے رب نے سچا تو کیا تم نے بھی پایا جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے سچا وہ کہیں گے ہاں،

فَإِذَنْ مُّوَدَّنَ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۳۴﴾ الَّذِينَ

تو پھر اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان یہ کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر جو

يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ ﴿۳۵﴾

روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور چاہتے ہیں اسے کہ ٹیڑھا ہو جائے، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور

بَيْنَهُمْ حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا ۗ

ان دونوں (جنت و دوزخ) کے درمیان پردہ ہے اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے سب کو

بِسْمِهِمْ ۗ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ لَمَّا

ان کی علامت سے، اور وہ آواز دیں گے جنتیوں کو کہ سلامتی ہو تم پر (اور ابھی) جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، اور وہ

يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿۳۶﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ

جنت میں داخل ہونے کے خواہش مند ہوں گے۔ اور جب پھیری جائیں گی ان کی نگاہیں

أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۳۷﴾ وَ

دوزخیوں کی طرف (تو) کہیں گے: اے ہمارے رب! نہ کر تو ہمیں ظلم پیشہ لوگوں کے ساتھ۔ اور

نَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسْمِهِمْ قَالُوا

پکاریں گے اعراف والے ان لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی علامتوں سے (انہیں) کہیں گے:

مَا آغْنَىٰ عَنْكُمْ جُوعَكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ ﴿۳۸﴾ أَهْوَاءَ

نہ فائدہ پہنچایا تمہیں تمہارے جتنے نے اور (نہ اس ساز و سامان نے) جس کی وجہ سے غرور کیا کرتے تھے۔ (۱۷۱/۱۷۲) کیا یہ (جنتی) وہی

الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۗ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا

(نہیں) ہیں جن کے متعلق تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ نہیں عطا کرے گا انہیں اللہ اپنی رحمت سے، (دیکھو! انہیں تو حکم مل گیا ہے کہ) داخل ہو جاؤ جنت میں نہیں

خَوْفٍ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَخْزُونَ ﴿۳۹﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ

کوئی خوف تم پر اور نہ تم تمکین ہو گے۔ اور آواز دیں گے دوزخی

أَصْحَابِ الْجَنَّةِ أَنْ آفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ

جنتیوں کو کہ اٹھلیو ہم پر کچھ یا نی یا جو کچھ دیا ہے تمہیں

اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَهْمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۝۵۱ الَّذِينَ اتَّخَذُوا

اللہ تعالیٰ نے، جنتی کہیں گے کہ اللہ نے حرام کر دی ہیں یہ دونوں چیزیں کافروں پر، جنہوں نے بنا لیا تھا

دِينَهُمْ لَهُمْ أَوْلِيَاءُ وَعَنْتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَاَلْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ

اپنے دین کو کھیل اور تماشہ اور فریب میں مبتلا کر دیا تھا انہیں دنیا کی زندگی نے، سو آج ہم فراموش کر دیں گے انہیں

كَمَا سَأَلْنَا يَوْمَ هَذَا وَمَا كَانُوا يَلْتَنِبْنَا يُجْحَدُونَ ۝۵۲

جیسے بھلا دیا تھا انہوں نے اس دن کی ملاقات کو اور جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا لَهُمْ يَكْتَبُ فَصَلَّاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ

اور بیشک لے آئے ہم ان کے پاس ایک کتاب جسے ہم نے واضح کر دیا (اپنے) علم (کامل) سے درآں حالیکہ وہ ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لئے

يُؤْمِنُونَ ۝۵۳ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ

جو ایمان لاتے ہیں - کافر کس چیز کے منتظر ہیں؟ یہ کہ قرآن کی جھمکی کا انجام کیا ہوتا ہے جس روز ظاہر ہوگا اس کا انجام

يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا

تو کہیں گے جو بھلائے ہوئے تھے اسے اس سے پہلے کہ بے شک لائے تھے ہمارے رب کے رسول

بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفْعَاءٍ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ

حق (پیغام)، تو کیا (آج) ہمارے کوئی سفارشی ہیں تو وہ سفارش کریں ہمارے لئے یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم عمل کریں

غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا

اس کے برعکس جو ہم کیا کرتے تھے، بے شک انہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو اور گم ہو گیا ان سے جو

كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝۵۴ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْ

وہ بہتان باندھا کرتے تھے - بلاشبہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور

الْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ تَفْ يُغْثِي

زمین کو چھ دنوں میں پھر متمکن ہوا عرش پر (جیسے اسے زیبا ہے) - ڈھالتا ہے

الْبَيْلَ النَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ

رات سے دن کو درآں حالیکہ طلب کرتا ہے دن رات کو تیزی سے، اور (پیدا فرمایا) سورج اور چاند اور ستاروں کو

مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ط إِلَهِ الْخَلْقِ وَالْأَمْرُ ط تَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ

وہ سب پابند ہیں اس کے علم کے ، سن لو اسی کے لئے خاص ہے پیدا کرنا اور علم دینا ، بڑی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے

الْعَالَمِينَ ﴿۵۲﴾ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ط إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۵۳﴾

سارے جہانوں کا - دعا کرو اپنے رب سے گڑگڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ ، بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو -

وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَ

اور نہ فساد پھیلاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد اور دعا مانگو اس سے ڈرتے ہوئے اور

طِعَاطًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۴﴾ وَهُوَ

امید کرتے ہوئے ، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں سے - اور وہی خدا ہے

الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ط حَتَّىٰ إِذَا

جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سناتے ہوئے اپنی رحمت (بارش سے) پہلے ، یہاں تک کہ جب

أَفَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيْمَنٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ

وہ اٹھا لاتی ہیں ہماری بادل تو ہم لے جاتے ہیں اسے کسی دریاں شہر کی طرف پھر ہم اتارتے ہیں اس سے پانی

فَاخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ط كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ

پھر پیدا کرتے ہیں اس کے ذریعہ ہر قسم کے پھل ، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم

تَذَكَّرُونَ ﴿۵۵﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ط وَ

نصیحت قبول کرو - اور جو سر زمین عمدہ زرخیز ہے (کثرت سے) نکلتی ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے علم سے ، اور

الَّذِي خَبثٌ لَا يَخْرِجُهُ إِلَّا نَكِدًا ط كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيَاتِ

جو خراب ہے نہیں نکلتی اس سے (پیداوار) مگر قلیل گھٹیا ، اسی طرح ہم مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں (اپنی) نشانیاں

لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿۵۶﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ

اس قوم کے لئے جو شکر گزار ہے - بے شک ہم نے بھیجا نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف تو انہوں نے کہا اے میری قوم!

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ ط إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ

عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اللہ کے سوا ، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے

يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۵۷﴾ قَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلِيلٍ

دن کا عذاب نہ آجائے - ان کی قوم کے سرداروں نے کہا (اے نوح!) ہم دیکھتے ہیں تمہیں کھلی

مُبِينٌ ۴۰ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ

گراہی میں - آپ نے کہا: اے میری قوم! نہیں ہے مجھ میں ذرا گراہی بلکہ میں تو رسول ہوں سارے

الْعَالَمِينَ ۴۱ اَبْلَغَكُمْ رِسَالَتِ رَبِّيْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مَن

جہانوں کے پروردگار کی طرف سے - پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے اور نصیحت کرتا ہوں تمہیں اور میں جانتا ہوں

اللّٰهَ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۴۲ اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلٰی

اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے - کیا تم تعجب کرتے ہو اس پر کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک

رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۴۳ فَكذبوه

آئی کے ذریعہ جو تم میں سے ہے تاکہ وہ ڈرے تمہیں (غضب الہی سے) اور تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے - پھر بھی انہوں نے جھٹلایا نوح کو

فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاَعْرَفْنَا الَّذِيْنَ كَذَبُوْا

تو ہم نے نجات دی ان کو اور جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھے اور ہم نے غرق کر دیا ان (بدبختوں) کو جنہوں نے جھٹلایا

بِالْبَيْتِ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عٰمِيْنَ ۴۴ وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا اِذْ

ہماری آیتوں کو، بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے - اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا،

قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِهٖ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۴۵

آپ نے کہا: اے میری قوم! عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، کیا تم نہیں ڈرتے -

قَالَ السَّلٰطِيْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِ اِنَّا لَنَرُكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّ

کہنے لگے وہ سردار جو کافر تھے آپ کی قوم سے کہ (اے ہود!) ہم تو خیال کرتے ہیں کہ تم نے نادان ہو اور

اِنَّا لَنَنْظُرُكَ مِنْ الْكٰذِبِيْنَ ۴۶ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّ

ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو - ہود نے کہا اے میری قوم! نہیں مجھ میں ذرا نادانی

لَكِنِّيْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۴۷ اَبْلَغَكُمْ رِسَالَتِ رَبِّيْ وَاَنَا

بلکہ میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے - پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے اور میں تو

لَكُمْ نٰصِرٌ وَّاَمِيْنٌ ۴۸ اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلٰی

تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جو دیا منتظر ہو - کیا تم تعجب کرتے ہو کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے

رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ

ایک آدمی کے ذریعہ جو تم میں سے ہے تاکہ وہ ڈرے تمہیں (عذاب الہی سے)، اور یاد کرو جب اس نے بنادیا تمہیں جانشین قوم

نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطًا ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ

نوح کے بعد اور بڑھادیا تمہیں جسمانی لحاظ سے قد و قامت میں، تو یاد کرو اللہ (تعالیٰ) کی نعمتوں کو شاید تم

تَفْلَحُونَ ﴿۹۹﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ

کامیاب ہو جاؤ - وہ کہنے لگے (ہو!) کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی اور چھوڑ دیں ان (معبودوں) کو جن کی

يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَاتَّبِعْنَا تَعْدُنَا ۖ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۰۰﴾ قَالَ

عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا، سو لے آؤ ہم پر وہ (عذاب) جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچے ہو ہود (علیہ السلام) نے کہا

قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي فِي

واجب ہو گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے

أَسْمَاءٍ سَبَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ قَانَ ۖ لَئِنْ لَمْ يَنْزَلِ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ

ان ناموں کے بارے میں جو رکھ لئے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے (حالانکہ) نہیں اتاری اللہ نے ان کے لئے کوئی سند،

فَأَنْتُمْ وَإِنِّي مُعَذِّبُ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿۱۰۱﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ

سو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں - پھر ہم نے نجات دے دی ہود کو اور جو

مَعًا بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا

ان کے ہمراہ تھے اپنی خاص رحمت سے اور ہم نے کاٹ کر رکھ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور نہ تھے وہ

مُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۲﴾ وَالِی شُودَا خَاهُمْ صَلِحًا ۖ قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

ایمان لانے والے - اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح (علیہ السلام) کو بھیجا، آپ نے کہا: لے میری قوم! عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی

مَا لَكُمْ مِّنْ آلٍ غَیْرِهِ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ بَیِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ ۖ هَذِهِ نَاقَةُ

نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، بے شک آچکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ اللہ کی اذنی

اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ فَنَارُهَا تَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ لَا تَسْؤُهَا بِسُوءٍ

ہے تمہارے لئے نشانی ہے پس چھوڑ دو اس کو کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے

فَیَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِیْمٌ ﴿۱۰۳﴾ وَآذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ

ورنہ پکڑ لے گا تمہیں عذاب درد ناک - اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہیں جانشین عاد کے بعد

عَادٍ وَرَبُّوْكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهْوِهَا فَصُورًا ۗ

اور ٹھکانا دیا تمہیں زمین میں تم بناتے ہو اس کے میدانی علاقوں میں عالیشان محل اور

تَنْجُونَ الْجِبَالَ بَيُّوتًا ۖ فَادْكُرُوا اللَّهَ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ

تراشتے ہو پہاڑوں میں مکانات، سو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اور نہ پھر و زمین میں

مُفْسِدِينَ ۴۳ ۖ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ

فساد برپا کرتے ہوئے - کہا ان سرداروں نے جو تکبر کیا کرتے تھے ان کی قوم سے ان لوگوں کو

اسْتَضَعُّوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ صَاحِبَ الْقُرْسِيِّ

جنہیں وہ کمزور و ذلیل سمجھتے تھے جو ان میں سے ایمان لائے تھے کیا تم یقین رکھتے ہو کہ صالح رسول

مَنْ رَبُّهُ قَالُوا إِنَّا نَبِئًا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۴۵ ۖ قَالَ الَّذِينَ

ہے اپنے رب کی طرف سے، انہوں نے کہا: بیشک ہم اس پر جسے دے کر انہیں بھیجا گیا ہے ایمان لانے والے ہیں - کہنے لگے: وہ لوگ جو

اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِينَ آمَنُوا كَفِرُونَ ۴۶ ۖ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَ

تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم تو اس چیز کے جس پر تم ایمان لائے ہو منکر ہیں - پھر انہوں نے گنہگاروں کو ڈالیں اس اونٹنی کی اور

عَتَوَاعِنَ أَمْرٍ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صِدْقُ اتَّبِعْنَا بِمَا تَعُدُّنَا إِن كُنْتَ

انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے اور کہا: اے صالح! اے آدم پر اس (عذاب) کو جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اگر تم

مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۴۷ ۖ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ

اللہ کے رسولوں سے ہو - پھر آلیا انہیں زلزلہ کے جھٹکوں نے تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں

جُثَيِّينَ ۴۸ ۖ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَوْمَ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا

منہ کے بل گرے پڑے تھے - تو (صالح) نے منہ پھیر لیا ان کی طرف سے اور (بصاحت) کہا: اے میری قوم! بیشک پہنچا دیا میں نے تم کو پیغام

رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ۴۹ ۖ وَلَوْ كَا

اپنے رب کا اور میں نے خیر خواہی کی تمہاری لیکن تم تو پسند ہی نہیں کرتے (اپنے) خیر خواہوں کو - اور (بھیجا ہم نے) لوٹو

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ

جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ کیا تم کیا کرتے ہو ایسی بے حیائی (کافعل) جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا

مِنَ الْعَالَمِينَ ۵۰ ۖ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ

ساری دنیا میں - بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لئے

الرِّسَاءِ ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ۵۱ ۖ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ

عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم لوگ تو حد سے گزرنے والے ہو - اور نہ تھا کوئی جواب ان کی قوم کے

إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾

پاس سوائے اس کے کہ وہ بولے باہر نکال دو انہیں اپنی بستی سے ، یہ لوگ تو بڑے پاکباز بنتے ہیں۔

فَأَجْبَدْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَةً مِّنَ الْغَيْرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا

پس ہم نے نجات دے دی لوگو اور ان کے گھروالوں کو بجز ان کی بیوی کے، وہ ہو گئی پیچھے رہ جانے والوں سے۔ اور برسایا ہم نے

عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾ وَالْيَٰمِئِن

ان پر (پتھروں کا) مینہ تو دیکھو کیسا (عبرت ناک) انجام ہوا مجرموں کا۔ اور (ہم نے) بھیجا مدین کی طرف

آخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

ان کے بھائی شعیب کو، انہوں نے کہا اے میری قوم! عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر،

قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاقُوا الْكَيْلَ وَالْهَيْزَانَ وَلَا

بے شک آگئی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے تو پورا کرو ناپ اور تول کو اور نہ

تُبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ

گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں اور نہ فساد برپا کرو زمین میں اس کی

إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَلَا تَقْعُدُوا

اصلاح کے بعد، یہ بہتر ہے تمہارے لئے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور مت بیٹھا کرو

بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصَدَّقُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ

راستوں پر کہ ڈرا رہے ہو تم (راہ گیروں کو) اور روک رہے ہو تم اللہ کی راہ سے جو

أَمَنَ بِهِ وَتَبْغُوزِهَا عَوجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَذَّبْتُمْ وَ

ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور تلاش کرتے ہو اس میں عیب، اور یاد کرو (وہ وقت) جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے تمہیں بڑھادیا، اور

أَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ

دیکھو! کیا ہوا انجام فساد برپا کرنے والوں کا۔ اور اگر ایک گروہ تم میں سے

مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا

ایمان لاچکا ہے اس کے ساتھ جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں اور ایک گروہ ایمان نہ لایا تو (ذرا) صبر کرو

حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾

یہاں تک کہ فیصلہ کرے اللہ ہمارے درمیان، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔